مثلا لآلی ثنا نای ناز لی فرما یک قرآن عربی زبان بی اور رونق افزائی طبع کیمیا ساین

گوہر یکتا [illegible] مسماۃ ترجمہ تحت لفظی اردو صاف سلیس زبان با فوائد و عوائد روایات صحیحہ کار آمد واعظان نامی

ترجمہ اردو تفسیر حسینی

جلد دوم مسمی بہ

تفسیر قادری

جسکو بنجاب مطبع نہایت عمدگی کے ساتھ فخر العلماء [illegible] سر ہدایت ترجمہ کیمیاے سعادت الحاج [illegible] صاحب علم [illegible]

صفائی انطباع سے مطلع [illegible] کی تابان و متجلی ہوا

لونڈیان خواہ ایمان والی خواہ کافرہ یا یہ کہ وہ لونڈیان عورتون مین داخل ہین اونکو یہان ذکر کر دیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اوس لونڈی سے بھی پرہیز لازم نہین جو ایمان والی نہو اور بعضون نے کہا ہی کہ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ سے لونڈی بھی مراد ہی اور غلام بھی اور بعضے اس بات پر ہین کہ اگر غلام نیک نیت اور پاکدامن ہو تو اوسے اپنی مالک بی بی پر نظر ڈالنا چاہیے اور اگر ایسا نہو تو نہین اور احقاف مین لکھا ہی کہ ابن المسیح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہی کہ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ کا لفظ تمکو کہین دھوکے مین نہ ڈالدے اسواسطے کہ لونڈیون ہی کے باب مین ہی غلام کے باب مین نہین اسواسطے کہ عورتین اکثر لونڈیان ہی مول لیتی ہین غلام نہین اور عورت کا غلام غیر مرد کے حکم مین ہی اوسے نہ اپنی مالکہ بیبیون پر نظر ڈالنا درست ہی نہ اونکی زینت کی جگہون مین سے کسی جگہ اَوِ التّٰبِعِيْنَ یا پیروی کرنے والے غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ بے شہوت والے مِنَ الرِّجَالِ مردون مین سے یعنی وہ مرد جو کھانا مانگنے گھرون مین آتے ہین اور عورتون سے کچھ حاجت ہی نہین رکھتے یعنی اونسے شہوت کا دغدغہ نہین جیسے بہت بوڑھا اور نامرد یا وہ احمق لوگ جو مباشرت سے بالکل خبر ہی نہین رکھتے اور اونکی نیت کھانے ہی مین لگی رہتی ہی اور مذہب حنفی کے اکثر امام اس بات پر ہین کہ ہیجڑے زنانے نامرد نگاہ ڈالنے کی حرمت مین غیر مردون کا حکم رکھتے ہین اسواسطے کہ اونکو مباشرت کی خواہش تو ہی زیادہ بہین نسبت کہ اوسکی قوت نہین رکھتے اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ یا لڑکے جو لَمْ يَظْهَرُوْا آگاہ نہین عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ عورتون سے یعنی نہ اونکو کچھ تمیز ہی نہ عورتون کے ساتھ مباشرت کرنا جانتے ہین یا یہ کہ عورتون پر آنے کی قدرت ہی نہین رکھتے یعنی بالغ نہین ہوئے اور اونکو شہوت نہین ہوتی وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ اور نہ مارین عورتین اپنے پاؤن گھنگرون پہنے ہوئے زمین پر چلتے وقت لِيُعْلَمَ تاکہ جانا جائے مَا يُخْفِيْنَ جو چھپائے رکھتی ہین مِنْ زِيْنَتِهِنَّ اپنا زیور کہ وہ پایل چھاگل پازیب ہی یعنی ان زیورون کی آواز بھی مردون کے کان تک نہ پہونچائین کہ آواز سنکر مردون کو اونکی طرف رغبت ہو وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ اور پھرو خدا کی طرف جَمِيْعًا تم سب اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ اے ایمان والو لَعَلَّكُمْ شاید تم تُفْلِحُوْنَ ○ چھٹکارا پاؤ توبہ کے سبب سے حق تعالی نے سب کو توبہ کا حکم فرمایا اسواسطے کہ کوئی آدمی خطرے اور گناہ سے خالی نہین امام قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اوسے توبہ کی حاجت ہی جو اپنے کو توبہ کا محتاج نہین جانتا کشف الاسرار مین لکھا ہی کہ حق تعالی نے مطیع اور عاصی سب کو توبہ کا حکم اسواسطے فرمایا تاکہ عاصی شرمندہ نہو اسواسطے کہ اگر یون فرماتا کہ اے گنہگارو تم توبہ کرو تو اونکی رسوائی ہوتی حق تعالی گناہگارون کی رسوائی جب دنیا مین نہین چاہتا تو امید ہی کہ عقبی مین بھی اونکو فضیحت نہ کرے نظم چو رسوا نہ کردی بچندین خطا ✤ درین عالمم پیش شاہ و گدا ✤ دران عالمم ہم بر خاص و عام ✤ بیامرز و رسوا مکن والسلام ✤ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى اور نکاح کر لو بے شوہر والی عورتون کو مِنْكُمْ اپنے سے یعنی جس مرد کی جورو نہو اوسے جورو والا کردو اور جس عورت کے شوہر نہو اوسے شوہر والی کرو وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ اور نکاح کرو اپنے نیک پاک غلامون کا وَاِمَآئِكُمْ اور اپنی لونڈیون کا صالح کی تخصیص اونکے اہتمام شان کے واسطے ہی اور اسلیے ہی کہ نکاح کے سبب سے اپنی نیکی پاکی مین ہین اِنْ يَّكُوْنُوْا اگر ہونگی وہ عورتین جو بے شوہر ہین اور صالح لونڈی غلام فُقَرَآءَ فقیر اور محتاج يُغْنِهِمُ اللّٰهُ تو غنی کر دیگا اونہین اللہ تعالی مِنْ فَضْلِهٖ اپنے فضل سے بسبب صبر کے یا بوجہ اجتماع روزی کے ایک گھر مین جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي لِلْاِثْنَيْنِ

سلہ ایک آدمی کا کفایت کرتا ہے دو آدمیون کو